

# Official Spokesperson's response to media queries on social media post by Hyundai Pakistan on the so called Kashmir Solidarity Day

February 08, 2022

یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہندائی پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے میڈیا کے سوالات پر سرکاری ترجمان کا جواب

08 فروری، 2022

یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہندائی پاکستان کی سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کے جواب میں، سرکاری ترجمان جناب ارندم باغچی نے کہا:

"ہم نے نام نہاد یوم یکجہتی کشمیر پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی ہے جو ہندائی پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ کے فوراً بعد اتوار 6 فروری 2022 کو سیول میں ہمارے سفیر نے ہندائی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور وضاحت طلب کی۔ توہین آمیز پوسٹ بعد ازاں ہٹا دیا گیا تھا۔ جمہوریہ کوریا کے سفیر کو کل 7 فروری 2022 کو وزارت خارجہ نے طلب کیا تھا۔ ہندائی پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ناقابل قبول پوسٹ پر حکومت کی شدید برہمی کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ ہندوستان کی علاقائی سالمیت سے متعلق ہے جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ کمپنی ان مسائل کو درست طریقے سے حل کرنے کے لیے مناسب اقدام کرے گی۔ جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ عالی جناب چنگ ایوئی یونگ نے آج صبح وزیر خارجہ سے بات کی۔ جب کہ انہوں نے کئی مسائل پر تبادلہ خیال کیا، جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ نے یہ بھی پیغام دیا کہ وہ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعہ ہندوستان کی عوام اور حکومت کے تئیں ہونے والے غلطی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔

ہندائی موٹرز کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں ہندوستان کے لوگوں کے لئے گہرا افسوس ظاہر کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ وہ سیاسی یا مذہبی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا ہے۔

ہندوستان مختلف شعبوں میں غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ لیکن، یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ ایسی کمپنیاں یا ان سے وابستہ افراد خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے معاملات پر غلط اور گمراہ کن تبصروں سے گریز کریں گے۔"

نئی دہلی

08 فروری، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release